

Urdu (اردو)

تعارفی رسومات

صلیب کی علامت

باپ ، اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر

آمین

سلام

مار خداوند یسوع مسیح کا فضل

، اور خدا کی محبت ، اور روح

القدس کی میل جول آپ سب کے

ساتھ رہیں

اور اپنی روح کے ساتھ

تذلیل کا ایکٹ

بھائیو (بھائیو اور بہنیں) ، آئیے ہم اپنے

گناہوں کو تسلیم کریں ، اور اس

طرح مقدس اسرار کو منانے کے لئے

خود کو تیار کریں

میں اللہ تعالیٰ سے اعتراف کرتا ہوں

اور آپ کے لئے ، میرے بھائیو اور بہنیں

، کہ میں نے بہت گناہ کیا ، میرے

خیالات میں اور میرے الفاظ میں ،

میں نے کیا کیا اور میں کیا کرنے

میں ناکام رہا ہوں ، میری غلطی کے

ذریعے ، میری غلطی کے ذریعے ، میری

انتہائی تکلیف دہ غلطی کے ذریعے ؛

لہذا میں مبارک مریم کو ہمیشہ کے

ویرگین سے پوجھتا ہوں ، تمام

فرشتے اور سنت ، اور آپ ، میرے

بھائیو اور بہنیں ، میرے لئے خداوند

مار خدا سے دعا کرتا

اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے ، مار

گناہوں کو معاف کرے ، اور ہمیں

لازوال زندگی میں لائیں

آمین

کیری

Lithuanian (Lietuvis)

Įvadinės apeigos

Kryžiaus ženklas

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Amen

Pasisveikinimas

Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė,

Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios

bendrystė tebūna su jumis visais.

Ir su tavo dvasia.

Gailesčio aktas

Broliai (broliai ir seserys), pripažinkime

savo nuodėmes, Ir taip pasiruoškite

švęsti šventas paslaptis.

Aš prisipažįstu visagaliui Dievui Ir tau,

mano broliai ir seserys, kad aš labai

nusidėjau, Mano mintyse ir mano

žodžiais, Tai, ką padariau, ir to, ko man

nepavyko padaryti, Per mano kaltę, Per

mano kaltę, Dėl mano sunkiausios

kaltės; Todėl klausiu palaimintos

Marijos visur-virgin, Visi angelai ir

šventieji, Ir tu, mano broliai ir seserys,

melstis už mane Viešpačiui, mūsų

Dievui.

Tegul visagalis Dievas pasigailės mūsų,

Atleisk mums savo nuodėmes, Ir atvesk

mus į amžinąjį gyvenimą.

Amen

Kyrie

Urdu (اردو)

رب رحم کر
رب رحم کر
مسیح، رحم کرو.
مسیح، رحم کرو.
رب رحم کر
رب رحم کر
گلوریا

سب سے زیادہ خدا کی شان، اور
زمین پر اچھے لوگوں کے لیے امن
م تیری تعریف کرتے ہیں، م آپ کو
برکت دیتے ہیں، م آپ کو پسند
کرتے ہیں، م تیری تسبیح کرتے ہیں،
م تیری عظیم شان کے لیے تیرا شکر
ادا کرتے ہیں، خُداوند خُدا، آسمانی
بادشاہ، ا خدا، قادر مطلق باپ
خداوند یسوع مسیح، اکلوتا بیٹا،
خُداوند خُدا، خُدا کا بڑا، باپ کا بیٹا،
آپ دنیا کے گناہوں کو دور کرتے ہیں،
م پر رحم فرما آپ دنیا کے گناہوں
کو دور کرتے ہیں، ہماری دعا قبول
کرو تم باپ کے داند اتھ بیٹھو،
م پر رحم فرما۔ آپ کے لیے اکیلی
مقدس ہیں، صرف تُو ہی رب
صرف آپ ہی اعلیٰ ترین ہیں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح
القدس کے ساتھ، خدا باپ کے جلال
میں آمین
جمع کریں

میں نماز پڑھنا دو۔

آمین
کلام کی کٹائی

پہلا پڑھنا

رب کا کلام
خدا کا شکر
ذمہ داری زبور
دوسری پڑھنا

Lithuanian (Lietuvis)

Viešpatie pasigailėk.
Viešpatie pasigailėk.
Kristau, pasigailėk.
Kristau, pasigailėk.
Viešpatie pasigailėk.
Viešpatie pasigailėk.
Gloria

Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje
ramybė geros valios žmonėms. Mes
giriame tave, mes laiminame tave, mes
tave dieviname, mes šloviname tave,
dėkojame tau už didžiulę šlovę,
Viešpatie Dieve, dangaus karaliau, O
Dieve, visagalis Tėve. Viešpatie Jėzau
Kristau, Viengimis Sūnų, Viešpatie
Dieve, Dievo Avinėli, Tėvo Sūnau, tu
naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk
mūsų; tu naikini pasaulio nuodėmes,
priimk mūsų maldą; tu sėdi Tėvo
dešinėje, pasigailėk mūsų. Juk tu
vienas esi Šventasis, tu vienasis esi
Viešpats, tu vienasis esi Aukščiausiasis,
Jėzus Kristus, su Šventąja Dvasia,
Dievo Tėvo šlovėje. Amen.

Surinkti

Pasimelskime.

Amen.

Žodžio liturgija

Pirmasis svarstymas

Viešpaties žodis.

Ačiū Dievui.

Atsakomoji psalmė

Antrasis svarstymas

Urdu (اردو)

رب کا کلام
خدا کا شکر
انجیل

رب آپ کے ساتھ و
اور اپنی روح کے ساتھ
کے مطابق مقدس انجیل سے ایک N
پڑھنا
ا رب، تیری شان
خداوند کی انجیل
خداوند یسوع مسیح آپ کی ستائش
کریں
ایمان کا پیشہ

میں ایک خدا کو مانتا ہوں، قادر
مطلق باپ، آسمان اور زمین کا بنا
والا، ظاہر اور پوشیدہ تمام چیزوں
میں سے میں ایک خداوند یسوع
مسیح پر یقین رکھتا ہوں، خدا کا
اکلوتا بیٹا، تمام عمروں سے پہلے باپ
سے پیدا ہوا خدا سے خدا، روشنی
سے روشنی، سچے خدا سے سچے خدا،
پیدا ہوا، نہیں بنایا گیا، باپ کے ساتھ
مطابقت رکھتا اس کے ذریعے
تمام چیزیں بنی تھیں ہمارے آدمیوں
کے لیے اور ہماری نجات کے لیے و
آسمان سے نیچے آیا، اور روح القدس
کے ذریعے کنواری مریم کا اوتار تھا،
اور انسان بن گیا۔ ہماری خاطر و
پونٹیس پیلطس کے تحت مصلوب
ہوا، اس کی موت ہوئی اور اسے
دفن کیا گیا اور تیسرے دن دوبارہ جی
اٹھا صحیفوں کے مطابق و آسمان
پر چڑھ گیا اور باپ کے دائیں ہاتھ
پر بیٹھا و پھر جلال میں آئے گا
زند اور مرد کا فیصلہ کرنا اور اس
کی بادشاہی کی کوئی انتہا نہ ہو
گی میں روح القدس پر یقین رکھتا
ہوں، خداوند، زندگی دینے والا، جو

Lithuanian (Lietuvis)

Viešpaties žodis.
Ačiū Dievui.
Evangelija

Viešpats tebūna su tavimi.
Ir su savo dvasia.
Šventosios Evangelijos skaitinys pagal
N.
Šlovė tau, Viešpatie
Viešpaties Evangelija.
Šlovė tau, Viešpatie Jėzau Kristau.

Tikėjimo profesija

Tikiu į vieną Dievą, visagalis Tėvas,
dangaus ir žemės kūrėjas, visų
matomų ir nematomų dalykų. Tikiu į
vieną Viešpatį Jėzų Kristų, Viengimis
Dievo Sūnus, gimęs iš Tėvo prieš visus
amžius. Dievas nuo Dievo, Šviesa iš
šviesos, tikras Dievas iš tikro Dievo,
gimęs, nesukurtas, su Tėvu susijęs; per
jį viskas buvo sukurta. Dėl mūsų, vyrų,
ir dėl mūsų išgelbėjimo jis nužengė iš
dangaus, ir per Šventąją Dvasią
įsikūnijo Mergelė Marija, ir tapo
žmogumi. Dėl mūsų jis buvo
nukryžiuotas valdant Poncijui Pilotui, jis
mirė ir buvo palaidotas, ir vėl prisikėlė
trečią dieną pagal Šventąjį Raštą. Jis
pakilo į dangų ir sėdi Tėvo dešinėje. Jis
vėl ateis šlovėje teisti gyvuosius ir
mirusiuosius ir jo karalystei nebus galo.
Tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį,
gyvybės davėją, kuris kyla iš Tėvo ir
Sūnaus, kuris kartu su Tėvu ir Sūnumi
yra garbinamas ir šlovinamas, kuris
kalbėjo per pranašus. Tikiu viena,
šventa, katalikų ir apaštalių bažnyčia.

Urdu (اردو)

باپ اور بیٹہ سے نکلتا ، جو باپ اور
بیٹہ کے ساتھ سجد اور جلالی ،
جس نے نبیوں کے ذریعے کلام کیا
میں ایک، مقدس، کیتھولک اور
رسولی چرچ پر یقین رکھتا ہوں
میں گناہوں کی معافی کے لیے ایک
پینتسم کا اقرار کرتا ہوں اور میں
مردوں کے جی اٹھنے کا منتظر ہوں
اور آؤ، والی دنیا کی زندگی آمین
homily

عالمگیر دعا

م رب سے دعا کرتے ہیں

ا رب، ہماری دعا سن

یوکرست کی لیٹورجی

آفرٹری

خدا ہمیشہ کے لیے مبارک ہو

دعا کرو، بھائیو (بھائیو اور بہنو)، کے

میری اور تمہاری قربانی ہو سکتا

اللہ کو قبول ہو قادر مطلق باپ۔

رب آپ کی قربانی قبول فرمائے اس

کے نام کی تعریف اور جلال کے لیے ،

ہماری بھلائی کے لیے اور اس کے تمام

مقدس چرچ کی بھلائی

آمین

یوکرستک دعا

رب آپ کے ساتھ ہو

اور اپنی روح کے ساتھ

اپنے دلوں کو اٹھاؤ

م ان کو رب کی طرف اٹھاتے ہیں

آئیے ہم رب اپنے خدا کا شکر ادا

کریں

یہ صحیح اور منصفانہ

پاک، مقدس، پاک رب الافواج

آسمان و زمین تیرے جلال سے معمور

ہیں حسن اعلیٰ میں مبارک ہو

Lithuanian (Lietuvis)

Išpažįstu vieną Krikštą nuodėmėms
atleisti ir laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir
būsimo pasaulio gyvenimą. Amen.

Homilija

Visuotinė malda

Meldžiame Viešpatį.

Viešpatie, išklausk mūsų malda.

Eucharistijos liturgija

Pasiūla

Palaimintas Dievas per amžius.

Melskitės, broliai (broliai ir seserys),
kad mano ir tavo auka gali būti
priimtina Dievui, visagalis Tėvas.

Tegul Viešpats priima auką iš jūsų
rankų jo vardo šlovei ir šlovei, mūsų
labui ir visos jo šventosios Bažnyčios
geris.

Amen.

Eucharistinė malda

Viešpats tebūna su tavimi.

Ir su savo dvasia.

Pakelkite savo širdis.

Mes pakeliame juos į Viešpatį.

Dėkokime Viešpačiui, savo Dievui.

Tai teisinga ir teisinga.

Šventas, šventas, šventas Viešpats
kareivijų Dievas. Dangus ir žemė pilni
tavo šlovės. Osana aukštybėse.

Urdu (اردو)

جو خداوند ک نام پر آتا حسند
اعلیٰ میں

ایمان کا راز

م تیری موت کا اعلان کرتے ہیں ا
رب! اور اپنی قیامت کا دعویٰ کریں
جب تک آپ دوبارہ نہ آئیں یا: جب
م یہ روٹی کھاتے ہیں اور یہ پیالہ
پیتے ہیں، م تیری موت کا اعلان
کرتے ہیں، ا رب، جب تک آپ دوبارہ
نہ آئیں یا: میں بچا، دنیا کی نجات
دند، آپ کی صلیب اور قیامت کی
طرف سے آپ نہ میں آزاد کیا
آمین

اجتماعی رسم

نجات دند ک حکم پر اور خدائی
تعلیم ک ذریعہ تشکیل دیا گیا، م
یہ کذ کی جسارت کرتے ہیں:

مار باپ، جو آسمان پر ہیں،
مقدس تیرا نام! تیری بادشاہی
آؤ، آپ کی مرضی پوری ہو جائے
گی زمین پر جیسا کہ آسمان میں
آج کے دن میں ہماری روز کی
روٹی دے، اور ہماری خطائیں معاف
فرما، جیسا کہ ہم ان لوگوں کو
معاف کرتے ہیں جو ہمارے خلاف گنا
کرتے ہیں اور ہمیں آزمائش میں نہ
ڈال، لیکن ہمیں برائی سے بچا

میں برائی سے نجات دے، ا رب،
م دعا کرتے ہیں، م ربانی سے
ہمارے دنوں میں امن عطا فرما، کہ
تیری رحمت سے ہم ہمیشہ گنا سے
آزاد ہو سکتے ہیں اور تمام
پریشانیوں سے محفوظ جیسا کہ ہم
مبارک امید کا انتظار کر رہے ہیں
اور ہمارے نجات دند، یسوع مسیح
کی آمد

بادشاہی کے لیے، طاقت اور جلال آپ
کا اب اور ہمیشہ کے لئے۔

Lithuanian (Lietuvis)

Palaimintas, kuris ateina Viešpaties
vardu. Osana aukštybėse.

Tikėjimo paslaptis.

Mes skelbiame tavo mirtį, Viešpatie, ir
išpažinti savo Prisikėlimą kol vėl ateisi.
Arba: Kai valgome šią duoną ir geriame
šią taurę, Mes skelbiame Tavo mirtį,
Viešpatie, kol vėl ateisi. Arba: Išgelbėk
mus, pasaulio Gelbėtoju, už tavo
kryžių ir prisikėlimą jūs mus
išlaisvinote.

Amen.

Komunijos apeigos

Gelbėtojo įsakymu ir sukurti dieviškojo
mokymo, drįstame pasakyti:

Tėve mūsų, kuris esi danguje, teisie
šventas Tavo vardas; atei tavos
karalystė, bus tavo valia žemėje kaip
danguje. Kasdienės mūsų duonos duok
mums šiandien, ir atleisk mums mūsų
kaltes, kaip mes atleidžiame tiems,
kurie mus nusižengia; ir nevesk mūsų į
pagundą, bet gelbėk mus nuo blogio.

Išgelbėk mus, Viešpatie, nuo visų
blogybių, suteik ramybę mūsų
dienomis, kad tavo gailestingumo
pagalba, mes visada galime būti laisvi
nuo nuodėmės ir saugus nuo visų
nelaimių, kaip laukiame palaimintosios
vilties ir mūsų Gelbėtojo Jėzaus
Kristaus atėjimas.

Už karalystę, galia ir šlovė yra tavo
dabar ir visada.

Urdu (اردو)

خداوند يسوع مسيح، جس ن آپ ك
رسولوں س ك ا: امن ميں آپ كو
چھوڑتا وں، اپنا امن ميں آپ كو ديتا
وڻ، مار گنا وڻ كو مت ديكھو
ليڪن آپ ك چرچ ك ايمان پر، اور
فضل س اس امن اور اتحاد عطا
فرمائ، آپ كي مرضي ك مطابق. جو
ميش اور ابد تڪ زند اور حكومت
كرتے يں

آمين

خداوند كي سلامتي ميش آپ ك
ساتھ ر
اور اپني روح ك ساتھ
آئي ايڪ دوسر كو امن كا نشان
پيش كريں

خدا ك بر، تم دنيا ك گنا وڻ كو
دور كرتے و، م پر رحم فرما. خدا
ك بر، تم دنيا ك گنا وڻ كو دور
كرتے و، م پر رحم فرما. خدا ك
بر، تم دنيا ك گنا وڻ كو دور كرتے
و، ميں امن عطا فرما.

خدا ك بر كو ديكھو، اس كو ديكھو
جو دنيا ك گنا وڻ كو ل جاتا
مبارك يں و لوگ جو بر ك
عشائے ك لي بلائ گئ يں

ا رب، ميں اس لائق ن يں وڻ ك
تم ميري چھت ك نيچ داخل و،
ليڪن صرف لفظ ك و اور ميري جان
ٿيڪ و جائ گي

مسيح كا جسم (خون)

آمين

ميں نماز پڑھن دو.

آمين

اختتامی رسومات

برکت

رب آپ ك ساتھ و

اور اپني روح ك ساتھ

Lithuanian (Lietuvis)

Viešpatie Jėzau Kristau, kurie pasakė
jūsų apaštalams: Ramybę aš tau
palieku, savo ramybę duodu tau,
nežiūrėk į mūsų nuodėmes, bet apie
jūsų Bažnyčios tikėjimą, ir maloningai
suteik jai ramybę ir vienybę pagal jūsų
valią. Kurie gyvena ir viešpatauja per
amžius.

Amen.

Viešpaties ramybė tebūna su jumis
visada.

Ir su savo dvasia.

Siūlome vieni kitiems taikos ženklą.

Dievo avinėli, tu naikini pasaulio
nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo
avinėli, tu naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, tu
naikini pasaulio nuodėmes, duok mums
ramybę.

Štai Dievo Avinėlis, štai Tą, kuris
naikina pasaulio nuodėmes. Palaiminti
pašauktieji Avinėlio vakarieni.

Viešpatie, aš nevertas kad tu įeitum po
mano stogu, bet tik tark žodį ir mano
siela bus išgydyta.

Kristaus Kūnas (Kraujas).

Amen.

Pasimelskime.

Amen.

Baigiamosios apeigos

Palaiminimas

Viešpats tebūna su tavimi.

Ir su savo dvasia.

Urdu (اردو)

قادر مطلق خدا آپ کو خوش رکھ ،
باپ، اور بیٹا، اور روح القدس

آمین

برطرفی

آگ بڑھو، اجتماع ختم و گیا یا:

جاؤ اور خداوند کی انجیل کا اعلان

کرو یا: سکون سے جاؤ، اپنی زندگی

سے خداوند کی تمجید کرو یا:

سکون سے جاؤ

خدا کا شکر .

Lithuanian (Lietuvis)

Telaimina tave visagalis Dievas, Tėvas,
ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia.

Amen.

Atleidimas iš darbo

Pirmyn, Mišios baigtos. Arba: Eik ir

skelbk Viešpaties Evangeliją. Arba: Eik

ramybėje, savo gyvybe šlovink

Viešpatį. Arba: eik ramiai.

Ačiū Dievui.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC